



عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس کی فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر ہے

ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ فرمایا: ”عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، جیسا میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر ہے“، پھر رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے“
[حسن لغیرہ] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں علم اور اس شرعی علوم کے حامل شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو فرض عبادات کی ادائیگی کے ساتھ حتی المقدور نوافل کا بھی اتمام کرتا ہے ”عابد“ یعنی خود کو عبادت کے لیے وقف کر دینے والے پر ”جیسا میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر“ یعنی عالم کا فضل و شرف، عابد کے مقابلے میں ویسا ہی ہے، جیسا رسول اللہ ﷺ کا فضل و شرف ایک ادنیٰ صحابی کے مقابلے میں ادنیٰ صحابی رسول، مراد لینے کی وجہ سے ہے اس وقت آپ کے اس قول ”ادناکم“ کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے“ یعنی زمین پر رہنے والے تمام انسان، جنات اور تمام حیوانات، یہاں تک کہ بلوں یعنی سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں کے حق میں خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں یہاں خیر سے مراد علم دین اور وہ چیزیں ہیں، جن سے دنیا و آخرت کی نجات وابستہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلاح سے مراد، اس کے مقرب فرشتوں کے گروہ کے روبرو، بندے کی تعریف و ستائش ہے اور فرشتوں کی جانب سے صلاح سے مراد بندے کے حق میں استغفار ہے اس شخص سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، جس کے حق میں روز قیامت تک فرشتے اور تمام مخلوقات، استغفار اور دعا میں مصروف ہوں گی یہی وجہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6106>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

